

Press Release
For immediate Release
October 20, 2016

ایس ای سی پی نے نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں کے مسائل کے حل کے لئے انٹر ایکٹو سیشن ترتیب دیا

اسلام آباد، ۲۰ اکتوبر: پچھلے ایک سال سے، ایس ای سی پی نے نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں کے لئے انضباطی فریم ورک پر نظر ثانی کی ہے۔ نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں کے کاروبار کی انجام دہی میں آسانی اور بہتری کے لئے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن میں فیس میں کمی، بعض قواعد اور ترامیم سے استثناء وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ انضباطی فریم ورک کے تحت، مائیکرو فنانسنگ ایک منضبط سرگرمی بن چکی ہے اور مائیکرو فنانس بینکوں کے علاوہ تمام دوسرے اداروں کو ایس ای سی پی سے مائیکرو فنانسنگ کے لئے لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ ایس ای سی پی نے صنعت کے شرکاء سے ان کی آراء معلوم کے لئے اسلام آباد میں اپنے صدر دفتر میں تبادلہ معلومات کا ایک سیشن ترتیب دیا۔

اس اجلاس کا اصل مقصد نان بینکنگ مائیکرو فنانسنگ لائسنسنگ / رجسٹریشن / لائسنسنگ پیش آنے والی عملی مشکلات اور لائسنسنگ کے بعد کے مطلوبات پر ان کی تجاویز معلوم کرنا تھا۔ پاکستان مائیکرو فنانس نیٹ ورک کے سی ای او نے اس دور میں کمیشن اور ایس ای سی پی کے چیئرمین کی جانب سے مسلسل حمایت اور رہنمائی فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شرکاء کی ایک کثیر تعداد نے رپورٹنگ کے مطلوبات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تو سپیشلائزڈ کمپینرز ڈویژن کی ٹیم نے وضاحت پیش کر کے ان کی تشویش کو دور کیا۔

سپیشلائزڈ کمپینرز ڈویژن، پراسیکیوشن اینڈ لیگل افیئرز ڈیپارٹمنٹ اور کارپوریٹائزیشن اینڈ کمپلائنس ڈیپارٹمنٹ کے اراکین نے ایس ای سی پی کی نمائندگی کے فرائض سرانجام دئے۔ ان کے علاوہ اکتیس نان بینکنگ مائیکرو فنانسنگ لائسنسنگ / رجسٹریشن / لائسنسنگ پیش آنے والے شرکاء کے چوالیس شرکاء کے ساتھ ساتھ پاکستان مائیکرو فنانس نیٹ ورک کی ٹیم اور سی ای او بھی اس سیشن میں شریک ہوئے۔

ایس ای سی پی نے شرکاء کو تمام معاملات میں اپنی مکمل حمایت اور امداد کی یقین دہانی کرائی۔ تاہم تمام شرکاء کو یہ بات

واضح طور پر بتائی گئی کہ ایس ای سی پی ان نان بینکنگ مائیکرو فنانشل انسٹی ٹیوشنز کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائے گا جو وقت مقررہ سے قبل لائسنس حاصل نہیں کریں گے۔

آٹھ مائیکرو فنانشل انسٹی ٹیوشنز کو پہلے ہی لائسنس جاری کر دیا گیا ہے اور سات مائیکرو فنانشل انسٹی ٹیوشنز لائسنسنگ کے عمل سے گزر رہے ہیں جبکہ مزید چودہ رجسٹریشن کے مرحلے میں ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ لائسنسڈ نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنی سیکٹر ان سہولیات سے فائدہ اٹھا کر ملک میں مائیکرو کاروبار کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔